



### برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں 8 ستمبر سے لاگو ہونے والی تبدیلیاں

برامپٹن، آن (27 اگست 2020) – سٹی کے دوبارہ کھلنے اور بحالی کے منصوبے کے حصے کے طور پر، بس سروس میں بروز منگل مورخہ 8 ستمبر سے تاحکم ثانی درج ذیل تبدیلیاں لائی جائیں گی۔

#### سروس میں تبدیلیاں

برامپٹن ٹرانزٹ کے درج ذیل روٹس 8 ستمبر سے فعال ہوں گے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو شہر میں زیادہ مؤثر طور پر نقل و حمل فراہم کر سکے۔

- 501 زوم کوئین
- 502 زوم مین
- 505 زوم بوویرڈ\*
- 511/511A/511C\* زوم سٹیلیز
- 1/1A کوئین
- 2 مین
- 3/ 3A\* مک لافلن
- 4/4A چنگواکوسی
- 5/5A بوویرڈ
- 6 جیمز پوٹر
- 7/7A کینیڈی
- 8 سنٹر
- 9 ووڈین
- 10 ساؤتھ انڈسٹریل
- 11/11A سٹیلیز
- 12 گرینویل\*
- 13 ایون ڈیل\*
- 14/14A ٹوربریم
- 15/ 15A\* برامیلا
- 16 ساؤتھ گیٹ\*
- 17 بوڈین\*
- 18 ڈکسی
- 19 فرن فارسٹ\*
- 20/20A ایسٹ انڈسٹریل
- 23 سینڈل ووڈ
- 24 وین کیرک\*
- 26 ماؤنٹ پلیزنٹ
- 27 رابرٹ پارکنسن\*
- 29/29A\* ولیمز پارک وے
- 30 اینرپورٹ روڈ
- 31 مک وین
- 32 فادر ٹوبن\*
- 35 کلارک وے
- 50/ 50A گور روڈ
- 51 بیئر فورڈ



- 52 میک مرچی
- 53 رے سن
- 54 کاؤنٹی کورٹ\*
- 56 کنگ نول
- 57 شیروولیس
- 60 مسی ساگا روڈ
- 115 ایئرپورٹ ایکسپریس

\*سروس میں دوبارہ شامل ہونے والے روٹس

وقف شدہ سیکنڈری اسکول روٹس کو 8 ستمبر سے بحال کر دیا جائے گا۔ موجودہ طور پر چلنے والے روٹس اور ان کے شیڈول کی فہرست دیکھنے کے لیے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) ملاحظہ کریں یا 905.874.2999 پر کال کریں۔

براہ کرم یاد رکھیں کہ برامیلا، برامپٹن گیٹ وے اور ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینلز میں ٹرمینل کی عمارت کے اوقات کار صبح 6 تا رات 9 ہوں گے۔ ٹرنتی کامنز ٹرمینل بدستور بند رہے گا۔ ٹرمینلز کے کسٹمر سروس اوقات کار کے بارے میں جاننے کے لیے، براہ کرم [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) ملاحظہ کریں۔

### کووڈ-19 کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

سٹی سواریوں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنی ممکن ہو جسمانی فاصلہ بندی برقرار رکھیں۔ سواریوں کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس اپنے پاس رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین کووڈ-19 اسپسمنٹ سائٹ پر ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہدایت کے ساتھ، مسافروں کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ بسوں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک لازمی ہیں۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔

باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) ملاحظہ کریں اور سروس کے بارے میں اپ ڈیٹس کے لیے [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) پر جائیں یا ٹویٹر پر [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)